



## سوال

ٹونکہ کی شرعی حیثیت

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارے ایک بھائی ہیں جن کے خاندان میں یہ روایت ہے کہ جب بچہ صحیح طرح بولنا نہیں سیکھ پاتا تو اسے چڑیا کا جھوٹا پانی پلاتے ہیں۔ اس سے انکا دعویٰ ہے کہ بچے کو جلد از جلد بولنا آجاتا ہے۔ کیا یہ ٹونکہ جائز ہے۔؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

میرے خیال میں وہ لوگ یہ کام کوئی شرعی حکم سمجھ نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ اسے طبی اعتبار سے عمل میں لاتے ہوں گے۔ اگر طبی اعتبار سے اس میں کوئی فائدہ ہے اور ان کا تجربہ بھی اس پر گواہی دیتا ہے تو میرے خیال میں اس جھوٹے پانی کے پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس عمل کے ساتھ کوئی ناجائز عقیدہ وابستہ نہیں ہونا چاہئے۔

حداما عنذی واللہ اعلم بالصواب

فتویٰ کمیٹی

محدث فتویٰ